



سوال

(592) کیا مقتدی کا امام سے پہل کرنا جائز ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

بعض لوگ امام سے پہلے آئین کتے اور رکوع و سجود میں پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا تقدیم میں کوئی وعید ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رکوع سجود اور آئین وغیرہ میں امام سے سبقت نہیں کرنی چلیے۔ حدیث میں ہے جو امام سے قبل رکوع سے سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کا سا بدل دے۔ ایک آدمی نے تجربہ کرنا چاہا، تو اس کا منہ اس طرح بدل ڈالا۔ ملاحظہ ہو! تحفۃ الاحوذی۔ جملہ ارکان میں جب امام مصروف ہو جائے، تو پھر مقتدی کو آغاز کرنا چلیے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوة: صفحہ: 524

محدث فتویٰ